
```°`````````1 /fi flŁ`flł "°`/Žz!" Łflž#°/\$Ł%`"#¿!&

'%ž,Łfl("ž'1/\$%Ł,(%~%

) žž" fl″/* °+%Ł, , °#°- ł °Ł/. /0/1211





Contents

Performance	3
Management's Discussion of Fund Performance	4
Investment Summary	5
Schedule of Investments	6
Financial Statements	14
Notes to Financial Statements	21
Report of Independent Registered Public Accounting Firm	28
Trustees and Officers	29
Shareholder Expense Example	35
Distributions	36

To view a fund's proxy voting guidelines and proxy voting record for the 12-month period ended June 30, visit http://www.fidelity.com/proxyvotingresults or visit the Securities and Exchange Commission's (SEC) web site at http://www.sec.gov.

You may also call 1-877-208-0098 to request a free copy of the proxy voting guidelines.

Fidelity® Variable Insurance Products are separate account options which are purchased through a variable insurance contract.

Standard & Poor's, S&P and S&P 500 are registered service marks of The McGraw-Hill Companies, Inc. and have been licensed for use by Fidelity Distributors Corporation.

Other third-party marks appearing herein are the property of their respective owners.

All other marks appearing herein are registered or unregistered trademarks or service marks of FMR LLC or an affiliated company. © 2023 FMR LLC. All rights reserved.

This report and the financial statements contained herein are submitted for the general information of the shareholders of the Fund. This report is not authorized for distribution to prospective investors in the Fund unless preceded or accompanied by an effective prospectus.


A fund files its complete schedule of portfolio holdings with the SEC for the first and third quarters of each fiscal year on Form N-PORT. Forms N-PORT are available on the SEC's web site at http://www.sec.gov. A fund's Forms N-PORT may be reviewed and copied at the SEC's Public Reference Room in Washington, DC. Information regarding the operation of the SEC's Public Reference Room may be obtained by calling 1-800-SEC-0330.

For a complete list of a fund's portfolio holdings, view the most recent holdings listing, semiannual report, or annual report on Fidelity's web site at http://www.fidelity.com, http://www.fidelity.com, or http://www.401k.com, as applicable.

NOT FDIC INSURED • MAY LOSE VALUE • NO BANK GUARANTEE

Neither the Fund nor Fidelity Distributors Corporation is a bank.

NOPQSPRUMWWXWQXQIQXW[XIXPI] RUSPIUKPIRWPYZRUIUP\X PUKR_ USTQ*UOP\X PUKZA\XD\XYU\KZ_ To`CaPUATU Y_PRUATRC*KKIRUUKP CQZXPRQPATICYUKPIRWYZIPI VQXP*UKRXI ROPSCYE UIUIRWPYZRUI GRUAR_ USTRIYUXUUKQXRYZEPQXQ RUPPR[]TFRQYT VQJSTEPQXA\YZQP_DKX bf J*aPVX*TRIXUAKYXXWQXQJE WWFSQRXQKRUIXE YWWBPIJRATKPQP_ bVQP_PUKYXY[[VQQAHTPQXQ RUPIU_ bPQ;RQTPXYZRWWAPCYWSTXUATICPQXUS PncPUP*BVXYUYXYU WAPRUTUVQQUPI]RQ\$P\T_CYPATBITYVQVVQQUPIY_CRUIKNPCRQXXR[[YVUXXQPQ RUPIUXQ RXYUIU]WAPATKPPZZ[XYZKPP Raa*XYURW|RQ\$P*TKPXXXWQXQVE YWWIROPBPPUWEPQBY PRIXUATA*TPXXQRUTYPIXIY YE TXE*WWYX_YQQE h



¬ "•_"®®"Ÿ¯°

ថ្ម នុំ - សំម៉ែនជា ២ ប៉ែងម៉ែន ម៉ែន និងប្រជាពល ប៉ែងម៉ែន សំម៉ែន សំប៉ែន សំបើន សំប៉ែន សំបើន សំប៉ែន សំបើន សំបែន សំបើន សំបើន

5%+/>%´´´ž4!/?@/%(/ "ž´-±/ž°_/fi!!°_!A

Ýnôcô làna ç	ÕÇÒ
ådÜç	άχό
öÜLPù î BAŞá iðø tàlÜtç	òà
àýßî laÜiçaaGaa	òçà
îï ãyNíá ĐỳBB BùTÜhçânGan	ìф
à hai air air air air air air air air air a	è ç ú
î legaletî a alûrêndan	àçõ
Bđiệrõ villiç	àçõ
î û Ürê Żyylî B r<i>e</i>PîfanîÛ iç	éçæ
âð Ária ýði á Biana ç	<u>é</u> çæ
	<u> </u>

< flłB°./C°#.%Łl/?@/%(/ "ž'=!/ž°./fl!!°.!A





'%-- %ž/Cॄ%#B!/F/#%žॄ`ž"°°

îïÝðlæðð d líffró læð l ig	épóépúú	<i>ව</i> න්ගී්න්රැ ළි නුණු	යි යිරී acceptance	éàl ó úú	<u>ì aì ữa cé</u>
and his fact in the convention	,,,,,,,,	(0.410.4)			<u>ì aciúi</u> èúice
ri Póár iá ar Giùaiùig	ëúú ĵ úú	a é lêúëlêóò	ones of the Ores of the	3	44831813
ÝiīÞá iù Kha ici ça ÝiīÞáci onda ÜlaiiÝanaid i ÞaYchtÜnas	èa è néió ààãi áá	àéûtôòútéae	ô ad áíÚil3anôi ç ôadáííííaÚhaís	èa ené úú óònéúú	
rearungais ýrá B arátí a nceás	à cáth cách cách cách cách cách cách cách	éòëû óõõõúò	camann caurgais càanta stàithe	ì ë âté iú	éè li áliái á
y a land nu anuaid ÖÜNÜ illin enika ile a	ì à Quốc c	è û eéêôò	Caulo Italuiç	reaeu	<u>aûêi aûi éë</u>
Outral at letter 100 a	õèa lida ë	<u>éõüééalúéóae</u> äa è lúéaèlúaeõ			
		aacutatuuco	ñ Bì á ô lất pá được đầu lới \hat{c}	ììónaice	aèû aé óûbéò
àýßî hálliga kara áß	Ó ΦÕÕÕÂÈÚ	ëa ള് എമ്മല്ന്റ്	an a daga wadaaniy an dijalijas	ìainaiú	éûi û jî
ø å ú á Úřijá B	äóäûiúú	a cc òòciáú	Ýn an citáin coù ann citáin c	a cina cina cina cina cina cina cina cin	èaigoù igoo
Yna Biana Chailtean Aireann an t-aireann an	éciêi ó	édifecélőjéæ	BÜ DYATÜÜTTÄT AB	ae dae	éõû aé áiúðaë
î RêyêD rî a dûrên ênênênênênênênênênênênênênênênênênên	èlêúeléáá	ìòë@aeconicac	ôîããô BŸãßç	èúò ê úú	aéitéaõitõä
ÿ ÝP Pi átalÚtana nás	aéi ûneiú	òãa éúûi ëë	S PÁILS SÁTÁ CANTAGAIDTEA	äúéiúúú	ã Đố CÚ TO ĐÉI
) In the date of the control of the		étêdatêda êda êda êda êda êda êda êda êda êda	î XÎ LÎ ÎN	éaó ê úú	éúáífèèiííá
		caccaccac	ýiáô iái đ ali t	aéõõaá	ääúûèèéûèúä
ãô n් වේ බ්ට දුබ්බ්මින්	äÜEÉÕÜÜÚÚ	ëéijjaòijóú	árô GÜYATÜİÇ	òòãò	ì ûbóë ûbéë
	,		ïB feiá ø àáic	äéiðiú	ì (jèèa (jeò ò
ä ô Xi átó; qá i Üiqáß	aae quú	èõijiëatijúú	öaleáí Betraithias	òòûúú	aòûõëa û õë
			YÁNG ZÁ CỦO BANDÔNG.	ääúiôpû	áờiệi việtáví
â öld Uái laíí		<u> </u>			aèciúiúciúi ú
			î nî î î î â d e lo î î â î câ ß	éèlijiàó	òûióàûûià
			içá BİPÜÁTÜÇ	á (TÉŐ A CÁT)	òûnéòûnúë
î Üildan denaanç	èéè ia éiú	éúiði óiðui	Û cîÛrîçîûBî î	éa é rôèú	éëlijiai iljaõ
ßā äßðýāðlālliç	ééa ce úú	ìû rè ëûúrëú	Üalõan i lia áβ	<i>òàúi</i> e úú	ëûpaì ûpéae
gÜBÂ đềiãôç	éäeiaeiú	éòû aaûaac			èëûbòaûbóè
Bunyo î î a Yî a Alima B	ì ước đười	éû ëa c ê	â íö álla Û		é û az cî bèci í púõ
Vố đã độ c hố v ất thá	ééûeéa	àúëûiëú	an 10 awa 0		Curaauccura
î ahalli qa B	ìûêúú	òóéianà			
ô බ්වික බ්වැකිබ ද	émocièmoci	<u>addoedeel</u>			
		òóiíaēiqué	i to muu marafii o Xe		m> (a) >
าไว้เรี่ย กรียนกา	,,,,,,,	.~~\	ŸîœîïäœîÿdŴîða á	éééígúú	adoeco (a como como como como como como como com
î ÜNÜ şilîzanîç	éúaiaaúú	éõõpèäõpää	බට් ඩ්වෘතිර ්ඨා 18ට් ඩිබට්ට්දබන් ඩිම රබීම ද ්ටී වද	ìa Đố cúi	éú l eaéúlióò
Viiani⊪കΩയും 40	123.78.60	120000	Miôyâ	ì ỗớữ ỗỗ	aéûúúóûóè
ÝÜdÜradamás	aoèi o úú	àòãéé(Îèòú	î dî Yê î îçâ î î î î î î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î	èõipúú	é û tòéûtéi
âyÝðlatá í Ýflúði í Várað Úrgáls a Várasa Várað í Galítha	è û ëò	ì ûnéachèi	ÿî âáôáÜİç	áða ún ejú	ì a cê ô ú iú ú a
ô Ý ô ãg Ý Galling ð sa Pália á ú	éài ô iúi	ì û i úúû 262 e	ýî aici kacika ciç	éû c áì wúú	<u>ël û aéóû aèú</u>
compora au Meiá ciai Viá caivitantic	éà Ô ÚÚ	éෲිéõෘô්රිæ äèíéóóෲéæ			<u> </u>
aeca dan madandaanop SHA dipanaci çananaci	éëèûneúú éànôúú	enecuarea énecuarea énecuarea	á í Úlekí Jádorji ali útálúkátárá a kélet	668666	òûdèálûdèè
3°2			arrushoushandamaana assumeç âBî ãáîÜïB á ÞőñããÜÜç	éàÒŒÚÚ	
ñ đ ư à là đà c	èëûeúú	<u>éúilióèiéóó</u> a é iléëòiíjáae	aar an unamenaawy ââffûa ýâfaffaâcî ç	aéônúú cóèiané	ì (ÉáÈ(Dá) àõú(Qõë(E)
		acutecutace	zamua yanaanan ç ÿïïα ßiħácôòáïòøæôóáβ	äanõúú	éûõúûæéé
î ÜÜGAĞ ÇANA	éa c i û	éì (Jác a a G	yird solded it was at a said	CEMICA	Caccaacc
ia Dia B	èmiú	éèGéèÕÕiú			
www.yc.i.o	Culai	aë@iûûûûó			
		Cicograf Ut 1 O			
βင်းကျော် ဆေးပြောက်သော	ờ đềi è cânè ú	ì ì ë G ëa e iQoeéi			
âôø BÜ üAÜÇAAA AA	éûúcciaeco	édiddeiae			
î ad îioony ananadas	ei õõpúú	èaenie			
î ii fîtî ô Ýiî állita s	ènouí	è í ééé íí jéë			-
ö î iá î ry Üba î î Yazî Ür já ß	èaiĝuú	ëúèiqaò			
J 3					

aðná Bouraðo B Y að Dhada	äéanniéú	ò ciốn cái é
iî B a áB	éóiéáúú	2000 (1800)
		
	_	
	_	
	_	

'%--%ž/Cॄ%#B!/F/#%žॄ`ž"°`

ù Bhùa Yia Th'Uhaancoi ça B	ì áë í ðáë	èà ũúái¢ éë
ÝadŪrada áß	ĩ ciế (t úú	òàò ûaé è
Überret á c öcü nt Gaat Ü rrea B	äõúiteaei	õétõi útitaae
îã îù âÜ iç	éèúiúú	àõũioà ei búú
í MGO GÜLA CANTITÁ	aòôòè _	alijó ce li de la la la la la la la la la la la la la
	_	éì é û òú úí ëá
	-	
îï xxozîn îï üÜ xxoïç	a a ildúú	éú l èòa l eõò
áßtìÝBái í BÞýðiÜriç	éû v ếú	ëiiúai¢aõ
a Ýiľsa ci ç	ééa û úú	èõ ä i ai aé æ
āðJháîßkaÜç	éúõâeú	òò (
â á ô à!Ýi ããÜi ç	ecuaeu èõãae	ë li ali ali e l
ñîããÜãã ç	éa éiú áú 6340344	aéddaèdaéi
ô Á ÚTÁ Î C H ÝTÔTÎ CÂÚTIÇÁ B	éõé ű úú	Če Úzé ÜÖÖÌ
PáladíáíBhyallináß	éaé û ee	è ûæé ûêié
ÿèáî B ayay Bri lia a Türá B	àa ĕû êóõ	ì ớa Tiếu
öÜMPù î BANYÁ ïÔØ GÂÜÜTÇ	é lőúõló iú _	<u> </u>
	_	<u> </u>
ôÝ ÝaÜh jáβî	ì éò õ uúú_	<u>éèllaoúleóa</u>
	-	
	-	
	_	
	_	
	_	
	_	

'%--%ž/Cį%#B!/F/#%žį̇̃ž"°[.]

đeiciki certő külütç	ì ũ p úú	<u>éûndacêé</u>	ô î iá î ryÜxxu Ya AÜr ç	ël vijúú èangaóòidbanéi
		<u> </u>	í Bha an gró Calliga B	òa é űaèë õiûlélûdaæ
			íß a36aÜr ç	ëõãnúú éûjjeèjéõæ
ýî Ünnanci çana kari	alijóali jeé	aéaû n érêûrea	íîïð h i ô da l lhaíß	aévolúa ëviaansea
â ânôciç	<i>òài</i> ê úú	ά ὐ ệἀ ΰ ệὶ	í ÞÝìαĐŪἡαὰΒα άάβ ñ	\tilde{a} \hat{a} \hat{b} \hat{a} \hat{b}
ß YadÜi rç	ìò â néiú	èŒúÓŒáú	í Üðaã aiDi njáß	a è ûeú áúôiòùaì
î alliyləti riyldaddir aallihaa B	éú úiú ú	<u> </u>	ßÖző áð Görgaðað áð í í í í í í í í í í í í í í í í í í	èòúiúá aiôi ëiúéò
•		aì aiteaetopeae	\hat{co} á Ýi \hat{co} \hat{a} \hat{c}	è ei Teúu á e Tao co Teòi
				é ඔ ළ්රු රුණු
n n Ükvi ây âsâkBaa	ciación ciación de cia	éi ú la òúleúè		
ùîÜà áβù	ò ũa a	õõeu võõé		
dê GHÁ GRAVICTI ZA VIDA ÜTÇ	àếi û tú	òé ű aéé ű jei	āứÛţç	\tilde{o} ê \tilde{u} i \tilde{u} i \hat{o} a \hat{o}
ânoù a di di di di di di di di di di di di di	ÓÔPÒÈ	ì aai@i ó	î amiî rîy.Üxacu Ya an Diç	ailûnnaõ ó ó únilí ó ë
SPÉTIAÑ TÁB	ééûróé	è û aë û õé	ÿziî á l ðiß û ûÎÜİçâxB ãááß	ì útālúú étiúó diða
ß Bria Giù a China an Aireann an	èúéaiúú	éû l (Trèa Gairoae	-	
đầo để para	ÒŒÚÚ	ới vẫ các các các các các các các các các cá	áÛ Ûáâ	3.700000000000
í ýô Ý v àl Úr (a hair á a lá sa chairtean a chairtean	éóigúú	a ë èíóõé	au Uaa	<u>ì (ãa 24 tilú) cité à</u>
íÜÖ aBîqaÜmaB	éúéûéé	éì û ré èitoé		
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	aei võúú	éacianea di ca		
á cinititati a n	òôèú	alije o e li de li		
a Canteananya 11	Culcu	ì cé Géa chúil a ch	YÂJIÔÙØTŘÁÞÁÐÝÍ ÝRÁÐÁTÜTÇ	äëûlúú ëlijibil ûbël
			àî <i>Bhana</i> ciç	òõuéúú éaideeaidúæ
ਪੌਰੋਪੌਸ਼ ਪੁਰਤ ਪ੍ਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਸ਼ਿਲ੍ਹ ਪੌਰੋਪੌਸ਼ ਪੁਰਤ ਸ਼ਿਲ੍ਹ ਸ਼ਿਲ੍ਹ ਸ਼ਿਲ੍ਹ ਸ਼ਿਲ੍ਹ ਸ਼ਿਲ੍ਹ ਪ੍ਰੀ ਸ਼ਿਲ੍ਹ ਸ	a ë á û n ë è	ìì ûaéa Gibèú	â đ ũ vat Ý á c ài Ý lã đ ữ ç	òòúna i annécineé
ÜBAÜÄ Î Ö H ÄÄÜÜÇ		óõõéóünë	ââlÞðB álÚ iç	éëëãnúú ééûípaintóæ
ú accanomanunç í á ômhúlá	òóòãòó	òúiiòúiài ú	Y lî â y â	óãnúú è quá újeòæ
	ÓÉ lat ú		í ýî r Ý Ža Va Kổ ã Đô Ĉo	äú zíjé èò ì ëjíjáájíjáú
idino alliç	éëèûúú **}	éúai l iaeiúúai	î äl a 6 î a â î î ç	őanáróze őanárósárásárásárásárásárásárásárásárásárás
ÜyBâáÜïü dÜİqáB Ver exeriin o	ëè lat iú	aal e òulaee		éèëlűéèl íjé é
Yala cacada Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara C	ì úi ũ úú	aquíaquoó		
âôîç	äéòiiúú	ëéûia éû òú	හිරුරු රාකීට දුන්න්ර්හි	èa éia éió a éi úé ú iéé
Báî ā Biryāni ç	éèèianúú	òòidëèidaei	âið á Úia Á ã á Úi ngá B	èì ë quú à à à à à à à à à à à à à à à à à à à
SEPÁTÁT ÝÖÜLVETÉVÄÄĞ ÇÁB	éì èû æ è	Ó TRÉ CHÀ THÀ THÀ THÀ THÀ THÀ THÀ THÀ THÀ THÀ T	ïlÜnca í ðallaða ç	õõèliiõõ élaliaela
Đổ đặc ry lòàu được	ééì ônì ë	ì (â) à (ê) ce	èa é út ó ú é ò	õæ €ééééééééé ò
để dấy vấy ô î iá để đã để iç cuốc aèû (eúûiòú C	áëûiì õõpáò		
UCARCI Ç	eteretætet	éά ® ὰάΦὰί		
đất ÝAB	éûnééûnéæ	óóûeaeúêòë		
asiio alūric	éűúnaőanéő	ééaldéaldieő		
í ÜBPÁðað Útgáß	éa é nôi è	éd í tédítèæ		
BÝBÍA ÝÐÚRÐA ÐÓBÐAÝÐAÐARÇ				
ã đ á cũ và	æccióuú	ìuôiòuúéè		
î GaAÛHA î ÜRAÛÜç	aèûeúú			
		<u>ói éúnëa 6êtúa</u> e		
iôîding	éaúi ó úú	ì ú la e a l ico		
ãî Lầi nữ Chào cá Chia	a@iòà	éûrúõûrúé		
Manana a a a a a a a a a a a a a a a a a	ìannn ài e	ò đán biến cách cách cách cách cách cách cách các		
denia allique	ëëiÔnúú	éaddeão o o o o		
aິຣີເປິກໍລິເລີ່ສ໌ເລີ່ ab aadurás	òëéû ï àé	ớc để cờ điác c		
âyî nayo Yla ôÞ bi ái n y Còn i Y aá Perá B	ììũnáú	ờ Đờ Đĩ Lị		
âni Giánî riginî di Winjanî	éë ó tal õ	à THE CHAIN À		
BáABFaici cáB	èãnúú	é ű jéd i dæ		
â PÚ Mű	évodává	ëàûeúéûòú		
Ŵe¥aÛţ	al õ èa	é űperü lő		
Ýi ôãô lài ç	ò đại chi cá cá cá cá cá cá cá cá cá cá cá cá cá	é ũ àòà ũ éèũeúæ		
ïBhana ç	àÒỡúú	aiitéoiíta a e		

\$ٰ(°ŁŁ°′/C,%#B!/F/#%ž,~ž"°°

î Þißa Öriu a dlin ç ÿ þaðar çáß í aðgrildaðg	é űééédaé ő aedi űéúú ééadőöl <u> </u>	ට බිරිපණිදුද් දරුබ්දුද්ධීන්න පමණි බර ර දදා බිදුද්ධීදේක්	10a í Oskyaddiga arð Þráði ú ann í í Íra í á n í ó íðaraddiga í íra á n	aœiúí éobòo _	ća áe ée <u>éleáélitö</u> ì l áe ődleőé
, 1 , 0 »š±1 ¬ ¬ 1 1/\$1/21 ±3/4/2 ŠŠ âô12a (dêc)ciêcii (dalú	n _j	¥ À«¥Á«¥Ã¤	á ân	-	aûaè ũúé
\$ٰ (° łŁ° · /C¸%#B! /F/2 IH@					
			î නිර්චිණ හි බෝම්මු න් බ්ර්ණාන්තිකර දැන බේ වේ. ර හිටින් කායුවේ නිත්ත්වේ වේ. බ්ර්ණාන්තිකර දැන බ්ර්ණාන්තිකර සි ති	áúël ae ò èó liae	è Già Giá Giá è è ú iù a ei Già a éi
				-	èì ûài á úú jêè
Þíðiná Þogá í í Yvá á á á á á í á í á í á í á í á í á í á	ǽiū́ǽ	éú í jéèi j èì	Ý ဆိုခြောပြားပြားပြားပြားပြား ရေးကိုဆိုခြေန	éèai le èé _	aíújeaúiòò
and in Yaca B n and in Yaca B n	äõõõúúú ëòôôèé _	é v ú é ú á ú	î Daîry ပြဲဆဲးကို ခြေပါပြီးနှင့် ျိန်းဆို မြောငှုယ်ခိုင်ငံ ကိ	àa@iñoà _	é lỗi ớ lệ é ë
	_	eouti euni o	άὖα΄ Ûí	-	èáiíaì ièàe
ßungio i ïa Yi anaaΩing anni i Yana β n	ciandrae Ciandrae	éóèt iiiòë			
and in Yana B n	aúanjoó	őa á úléë	øiâillig «Mainte		
ana în Y a β ñ	aõõüüeú _	éűiádűiéé	anni i jîrîanî Bîn	èúà õ óé	alitè de l'édité de la la la la la la la la la la la la la
	_	<u>éűjééűjéő</u>	á a í í Ý a á á á í á í á á á á á á á á í á á á á	aèitaé èúiliúú	ì ëë û jaa a ë é û jaë
ámuatuma í rýadá Br	à®úú	ëëõûlaò	il ang niaaas n î laniüna îi y aaêaβ ñ	edirui ėai̇̃óúú	éû ré èûõõò
ഷധവഷയും 111 അവാ 11	awu _	<u>eecurao</u>	Term Creating 1112 access 11	-	
ล ัทลเป็นเป็น ใช้เก็นแ ล่ กั	aènôëo _	é lűáélát éó		-	
ân íö álűlá Û	_	ì Ôp cú làicé			
			ล ทักลฝีโด เปี เล ซีเบ๊ทัก ลโซสฺ กับรักล	éúèûiaai.	al ű éd é dé
ô ïBÜāālŪiç					
and in Year B n and in Year B n	òûrõæ æûräú _ —	õõëitéaa <u>ćëõitéaõ</u> ét õ aentai ó	yî Îkônîcá il B ahî Vốa ánh Îkô il Bahê để đôn và	é ũ iì ố úú _	ééűéaeűéeò
ôîïá ß YinaÜn yaîïYanaéáß n	áálí¢cá _	ì ờú đ i ế	, ¹ , ° »5" ®ÄÄÄ®®Äo s i/, ¹ ±3/4/2	-	
ân íö aí ÿí	_	aíãéòiúea	šš acija comeen co	-	À;¥À¦¥£«§
àð dð Ýá á á í í Ýa á á í í Ýa á á í í Ýa á á í í Ýa á á í í Ýa á á í í Ýa á á í í í á á í á í á í á í á í á í	čéčánúú _	é íř ëò îrè à			
ilda i Calley Gallific anni i Yi Zaa B n	ääóí€õú	è ũ ioëi ũ óõ			
T T T T T	ТТТТ	T			
Annual Report		_1			

\$L°(° <u>H</u>L° ' /C° #" L° '° ! /F/2I2@

î Ü**lenî ÜralÜr**çávêá ñ ý ásá á áðala é de é úsúúú

éûééúũúúú ___¤¥À«¥¿§

¤;¥À\$\\ | ¤\\ £ |

< %ž° '/< flłB° / "ž'!/F/ I/@

»"´">~

ß đển iái của nhiều

1/Ä,3º1/½Ä,1/\$Êš¤§§Ë\$Ì

ा सभीभि एका तम भिरंत पिकारोपिका भीमिक तमा । ऐकि व वीरी को । ऐकि कि तमा भीभि तो तमा प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार ११ तमा भीभि को तक व्यक्त के विकार के कि विकार के कि विकार के कि विकार के कि विकार के कि विकार के कि विकार के क ता तमा भीभि को कि विकार के कि विकार के कि विकार के कि विकार के कि विकार के कि विकार कि विकार कि कि विकार कि व

- ñ îðitadeadiñoiNP
- î îî nort Parada ret din dayî arî nort Parad din dide îi bûnê û ç

- ý íî**rörÞák**áii i**leGallileoiá kýdiðaile**rvá **skerÞás**leç
- Ý නිර්වාරුවේ.අහුවන්න ට්ටයික ස්වානිස කැට් ක්ෂේට්ට වැටිනට ප්ටින්වාරුවන් වැට්ට වැටින් විට්ට වැටින් වැට්ට වැටින් සිට විට වැටින් වැට්ට වැටින් වැට්ට වැටින් වැට්ට වැටින් වැට්ට වැටින් වැට්ට වැටින් වැට්ට වැටින් වැට්ට වැටින් වැට්ට වැටින් වැට්ට වැටින් වැට්ට වැටින් වැට්ට වැටින් වැට්ට වැටින් වැට්ට වැටින් වැට්ට වැටින් වැට

TÚT að í Úta liði á Výandayarðaððrildan ní Votráið an nei Vátað dan diç

î 186a î riy Übbiü 1676 fa fillikat î î 1966 deneji û ê	ìuîa'á	a de de la company de la compa
ôn a n Yuallig an Yaa e	ò éë áé	é (Pèc) (Pi õ
Þ KitiákajííÝajé	éé éë àú	a ûnè õû i èõ
â ÝmaÛÞ TÜ IA ÝIÚTÍŠ áÞç á î T Ý ãá	ò éé àé	éanécianú
â ÝmaÛÞ TÜ IA ÝIÚTÍŠ áÞç á î T Ý ãá	ò ướ áá	a ũae ûèæ
átoruálútjá í rýadú	ó éò àé	éûrcanîaé
बैलिए र्रव देव î î र्रवक	è ướ áé	àŒ Æ Œ
ÝaβîãaNinç	õéè àúáãõèú àú	éú î èèëí ě õò
EÜ TÝ nalÜr _ç anban	ë éè àlúa áéà éò àé	ã ũ ớ cũ éú
ô iBÙ aaUh a i i Ý aa	è úá áé	é n an eú
ô iBÙ aaUh a i i Ý aa	õ ää äé	äùèóùíæ
ïGá î GliyalÜina î ïÝãá	é eî àé	àũí péi éë

 18a î Băyallinți î î Yaa
 æ û aé
 é ú actióu

 20a î Înți î î Yaa
 é û è û a û
 è coce coc

É"¶Ñ©→ŠÈ¯Ñ®Ś"®®"¯→©´šœë©°

					2 11-0 0 000 -				
œ™ ¥ -©) -					»"Ó¶æÂÒ		»"Ó≸ÍÐ	»"Ó \$ EÂÒD
	âô d ÜMPAÜ LITÖ M ÎA				éûééûáèiúai	é í pa e ibóú	(Ê) Õ	éõü é álúéáæ	èúi ô àú i ëé
	âđầo î ïá Vất PốÜ I				éûlèèûei aqûbæ	é î Pê Ú Î PÔ	ũũôò	àã ã€ë€Î€ ãú	äa û ëò ũ€ éé
	âð Áðo î i á 118 áð á				a ẽaû ëa û iéó	a è õiëõú	î î æ	èandrúénúéé	alãné di lipa a
	Üïü				é í fòé ízaé ífóé	é ũ á ũ áờ	û èòò	éúi a ièòi è òæe	ä
	ÝBÜKA				a mai di di di di di di di di di di di di di	à cầu cũ điệc a	înè á	éúiúiúaiúiéò	
			èíéóë	Ĵ eòú Ĵ OÕ	è léaèlóaéló lúë	éõûla é úaèú		éì (jáá é láció	
			õõè	ũúáiêú	őúé ülő é űté è	éëûû alibóé		òè ûë ëûbëú	
à î rỹ lờici			ìûnõé	îaué îë a a	ì ũà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà	ééû a éiëûçõä			
		ììò ó a eo aiìì	ììéûeèé	(ô èi	ì û ae ì úōéú	ä			
		édűaéelűdáá	édűaée	(Dáa	ä	ä			
		éèì lỗèélèéá	éèì űőèé	î téa	ä	ä			
		é r êòrêae		ä	ä	élîjê di dê e ê			
		äĕdikadilibád éi íóaéi ka óði	î èè	ÞîBB		₽A.	æ		

/Cˌflˌ゚- ゚ž ᢩ/%(/) !!゚ ᢩ!/flž ˈ/; ˈflł ་‴ œŸ;¢"•𣤥\$\$¦¦ O TIMM@M $\hat{\textbf{U}} \hat{\textbf{J}} \hat{\textbf{J}} \hat{\textbf{J}} \hat{\textbf{U}} \hat{\textbf{J}}} \hat{\textbf{J}}} \hat{\textbf{J}} \hat{\textbf{J}} \hat{\textbf{J}} \hat{\textbf{J}} \hat{\textbf{J}} \hat{\textbf{J}} \hat{\textbf{J}} \hat{\textbf{J}} \hat{\textbf{J}} \hat{\textbf{J}} \hat{\textbf{J}} \hat{\textbf{J}} \hat{\textbf{J}} \hat{\textbf{J}} \hat{\textbf{J}} \hat{\textbf{J}} \hat{\textbf{J}}} \hat{\textbf{J}} \hat{\textbf{J}} \hat{\textbf{J}} \hat{\textbf{J}} \hat{\textbf{J}} \hat{\textbf{J}} \hat{\textbf{J}} \hat{\textbf{J}}$ éatřőètřa ètabé Ýì Á Þái ÜH Bá dÜ Fá rí Tá a cá cá the cá thá cá tha cá th a éaida aideo $\hat{\mathbf{d}}\hat{\mathbf{r}}\hat{\mathbf{a}}\hat{\mathbf{U}}\hat{\mathbf{d}}\hat{\mathbf{d}}\hat{\mathbf{1}}\hat{\mathbf{U}}\hat{\mathbf{d}}\hat{\mathbf{d}}\hat{\mathbf{1}}\hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{u}}\hat{\mathbf{v}}\hat{\mathbf{d}}\hat{\mathbf{d}}\hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{o}}\hat{\mathbf{d}}\hat{\mathbf{d}}\hat{\mathbf{e}}\hat{\mathbf{u}}\hat{\mathbf{o}}\hat{\mathbf{a}}\hat{\mathbf{e}}\hat{\mathbf{e}}\hat{\mathbf{e}}\hat{\mathbf{o}}\hat{\mathbf{o}}\hat{\mathbf{a}}\hat{\mathbf{e}}\hat{\mathbf{e}}\hat{\mathbf{e}}$ éa**û**ia**aû**iëa**û**i ôi Yi đười Uhái à Atáthai á rôta cò đi c óàãá î **nî Y**ÎB **a**i á Gi**a Î**Ü**n** a Dî Ü**ha**a Gibû ãã à එම්න්ස් ë**û 2020 û** û û ô ë**lipaélip**óë YAPÝ@PÁČÁNÍ NÍ YÁB ÁNÁNÔ Á YÍN ÁPÁNÍ ÜLEGNÁ GÜR à Câi ÚCEÚÓ ÿîßkánîÜánã àéiãnì à ByîïaînîYoBaîã ëa**an**ônia 265, —©¶5°™™@™ »-" Ç**¶©"** ™ ì ớ cức để ÿBBaiaciáckilanyBianiùî îù à 10 cm 10 c minariya BÜBür îÜEkîî éûiëæêëõá étêi étêaa Minaßaadülaminaivai iläia éjão có étè à acadrigadian noi Yi aaadii ù ÕŰEÒ20EDÕÕ \$\$\$ -**©**\$\$-"¢**¶©**™ ai ûzecîóòi 1/4 GO TIMMOM éatêrõú aza é aze à î ka azî kanîd kakarî ÿBÝÐÍÐA ÝÐA éúðbúðú úð óð ei ákadno oddrú ú ú ÚÚ rá ára andraevanéi víjóë 1/4 COTMINGM éatêõútaaétae ${}^{1\!/\!4} \, \textcircled{S}^{\text{TNMW}} \textcircled{E} \, \widetilde{\mathbb{N}} \, \breve{s}^{:} \, \widetilde{s}^{:} \, \widetilde{\mathbb{O}}_{\dot{\dot{\mathbf{1}}}} \, \widetilde{\mathbb{N}} \, \, \breve{s}^{!} \, {}^{\mathbb{Z}^{2}} \, \overset{}{\bullet} \, \overset{'}{\circ} \, \widetilde{s}^{!} \, \overset{\ddot{\bullet}}{\bullet} \, \overset{'}{\circ} \, \overset{\ddot{\bullet}}{\bullet} \, \overset{'}{\circ} \, \overset{\dot{\bullet}}{\circ} \, \overset{\dot{\bullet}{\circ}}{\circ} \, \overset{\dot{\bullet}}{\circ} \, \overset{\dot{\bullet}{\circ}}$ È-©: **%±**¶:™\$° èõçëë 1/4 © TINNIQÉ: N vão î i Vita i Vi a Cita V èõæè ½•ÓŸš±¶™∜а

èaqòì

èõçõe

1/4 © TWW CÉ "N vào î l'Úlai há Allaí v Pálai há î laí vá an cance é e a accone e a accone centro and î

1/4 © TINN CÉ "Ñ vào î î Ý vái Ý að liái V að liái V

/C,fl, °- °ž,/%(/7+°Łfl, %ž!

CP T SEP X T SEP X T SEP X S T	/C,II, - Z/%(//+ fil, %Z!		ƨ•š">~"~
(日で) で (
변변 16	ÈÓ™© ">®ÈŸ÷"		2021 . 22 2/0//
# *** *** *** *** *** *** *** *** *** *			aúéiti òito
(日本 1987年 日本 1987年	$\hat{\mathbb{U}}$ hô î áiô á Ý ì ấ Đá ũ $\hat{\mathbb{U}}$Bác		éú íæac íéi
(日本 1987年 日本 1987年	s̃ ₃ –©¶ÈŸ+"		äéélééáléòë
語語の	ÄÕ">TMIM		
###################################	AÜRî îÜBîî	éúéi l eòói a èú	
本語	ï Gä nï an Ü anã	éèidi atéòú	
#####################################	ŶŶŶĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸ	au iê a a ûêô	
#####################################	nod ří lái î a	éithái tituíze	
10日	के र्जिं शोरी हो शिक्ष हो प्रति हो प्रति हो प्रति हो प्रति हो हो हो हो हो हो हो हो है है है है है है है है है है	äéõûiúõ	
15日	Ŵũ î Ŵ ĩ ŮĦ ₩₽Pî ãaîî ãAŨá î Ü ãã	a ë l e ôò	
新報道の音	aìÉ	ÕÕ ® àÈ	
######################################	îŭBa	äëûiìó	
## 1 (注 # 1 (1 (注 # 1 (1 () (1 (1 () *) *))))))))))))) ###################	Ýn a ÚJ ô cá	ćéι ઁ μα̃	
####################################	and the contraction of the contraction \hat{a} and \hat{a} and \hat{a} and \hat{a} and \hat{a} and \hat{a} and \hat{a} and \hat{a} are contracting to the contraction \hat{a} and \hat{a} are contractin	<u> </u>	
	á î lầa aî là Maridia	∂€ã€ Ô	
「相解 (ái cítriá í lái ai bhriai ùa thú á		éèa ûrê è r éäë
「相解 (¼ ® Ò™©">&Ÿ;-"₫¶™D		
######################################	®""¶Ö¯Š'>¯ŠÇ>•""¶Ö¯Š×"→ŠÎ»—™D		
කරේ හිව නිව කින වැඩ කර මු වැඩ කර මු වැඩ කර මු වැඩ කර මු වැඩ කර මු වැඩ කර මු වැඩ කර මු වැඩ කර මු වැඩ කර මු වැඩ කර මු වැඩ කර කර මු වැඩ	î là i (lá Ýi ù ài (lý[*]là àit ài đ [°] U		
ári Yi Jiani Chat Jatrá Ia ét étiéa chat Ja Bhì ta Bhì	álĺďi ap í Úka í riví Má		
	\hat{A}	<u> </u>	
### ### #############################	ái cũ Ýlàvii Úh đườ là thất	eî é i ú é a	
AUTO PO 1 LIA 1 100 MYA AUTO PO 1 LIA 1 100 LIA 1 1	ÖRNÄÜ IN RYN var Syla noon		óaòû úñaêñ
AUTO PO 1 LIA 1 100 MYA AUTO PO 1 LIA 1 100 LIA 1 1	âyBû i alati k adii G a hi vaB ii r hîrt dâ vi ii r hîrt da dû		
## Yi ### UBA dia	állúi ð i l ús i r ólf ía		
AND THE STATE OF THE STATE	\hat{A}	õû õë û eõ	
#####################################	á lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá	é	
रोक्कार् सी विश्व के किसी के किसी के किसी के किसी के किसी किसी के किसी किसी किसी किसी किसी किसी किसी किसी	accidituato vetila	ì ú a©a éè	
$1/4$ $\stackrel{\circ}{\otimes}$ $\stackrel{\circ}{\to}$ $\stackrel{\circ}{\$}$ $\stackrel{\circ}{\$}$ $\stackrel{\circ}{\$}$ $\stackrel{\circ}{\$}$	ái a ladúak viyakan víjan úvá	ài úa iòë	
$1/4$ $\stackrel{\circ}{\otimes}$ $\stackrel{\circ}{\to}$ $\stackrel{\circ}{\$}$ $\stackrel{\circ}{\$}$ $\stackrel{\circ}{\$}$ $\stackrel{\circ}{\$}$	ව්වෘත්වූවටට න්සිට් සින්ට යින්ට යනි වා ප්රචර්ධ වෙන්වේට		<u> </u>
	1/4 (\$ " → £¶ TMD		a Gibò à Gibà à Gib à Gibà a Gibà a Gibà a Gibà a Gibà a Gibà a Gibà a Gibà a Gibà a Gibà a Gibà a Gibà a Gibà a Gibà a
44 (\$\rightarrow \text{f} \ \text{ \text{ind} } \ \text{ \text{f} \ \text{ind} } \ \text{ind} \ \text{ind} \ \text	¼\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		2 €

/Cˌflˌ゚- ゚ž /%(/ 9flž 4゚!/˘ž/K゚/) !!゚.!

	ƨ•s̈́>~~~ œ̈Ÿ; ¢°•s̃£¤¥¦§¦¦	ƨ•s̈́>~~~ œ̈Ÿ;ç°•sE¤¥¦§¦¤
ÈŸ""TM\$O;"Y""TMB>\$/4@TMM@M		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
î I JA		
î 181(ch 2 P î Ú18(ch î à aixia	õòû € èóaàèú	õ û eúa û èë
î kaî CâÁn và Li Karata	óaòûnúõûaeõõ	a mind die e a die e a die e a die e a die e a die e a die e a die e a die e a die e a die e a die e a die e a
âyd in alad ladin da n da na rifer da na na faran na far	ỗŨ ỗỚỆ ĐỀ	èndei neurondéé
1/4 \$\times \times	a ú ĉeûpô úpëa	ò â rè cita é il rai
Ý PÝC PÝ CÍ HE PR ÝCH Ý CÍN TÍ TÝ TÝ TÝ TÝ TÝ TÝ TÝ TÝ TÝ TÝ TÝ TÝ TÝ	ócènne	a îlê co îla e e lo ca a ca a ca a ca a ca a ca a ca a c
í yết được được được để cá cũ rũ cá	òòéíidéeidae	é űjáőlé áél é i á
¸—©∯, 'K'' "TMB, 'S " (G TMM(M	ëũnà ũn ảnháe	è (Jas)(Jóé) à
1/4 @ TIMIOM		
î d î likî d ê â î î k û	ài (ê côi (à rac) (É cèi	áéí í é céi a acia e ac
ÜlvõáîiÝou	éa @ õú aa éaa	al Geol Gaac Gee

/fiŽs/ %ž ¿Łfl(" ž ˙ 1 /\$%Ł (%~%/Žz ˙ jfl~/ ~fl!!						
Æ"•T\$'>~"~šœŸ; C"•š©¥		 §	§ ¤	\$ \$	¦§¤Á	§¤À
\$\$\$\\delta\f\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			\ /~	\~ /~		\~ ^
කිරෙඩි විවිත විට ක්රිවර්ට ක්	-	<u>à (èò</u> _	ìëçéõ	<u>èõ</u> eõ	<u> </u>	èõçâi
amunu rano amina rua rinanza amma î lavota î î lavota î î â â â â â â î		¢iá	çî	ãù	œ	¢ àè
ássan í Hai Garrí úa Glúadúir Garrí úa		<u>ê</u> î çèõ	éáçëë			açòú_
ana dheann a' dheann ann ann ann ann ann ann ann ann ann		éì (éò	éágóá	ééçèé	óæjé	à¢ãõ
an apyardanô aj akatar î û aktro î		<i>ç</i> ia	qúa á	¢ ú	¢ æ	çàæ
am apýchálaió allai Baí vaibú		<u> </u>	aqõa af			èçäë
amma ciran arpy circa		açèa á	açõi	ç éé	ìçàõ	èçài
á í 1877 188 a ú Ü nó á í T ó u		èõçëë	òì ¢ò	ì ëçéõ	<u> </u>	èàçéè
\$\$, ~ \$\$® \$ \$\tilde{		aaqèéê	äõçëèê	èúçòõê	èéçòëê	a ç èë ê
ŠŠ®`© <u>™\$©</u> аÓ'•''″м°®™™®≸ůů						
		çaéê	çaéiê	çaé ê	çaé ê	ça aê
ama î li ali la o aî î a B o î î a ali l o		çaéiê	çaéiê	ça é ê	çaé ê	ça a ê
ama î Ça ağı kodanı vətiğlə		çaéiê	çaé ê	çaé ê	çaé ê	ça é ê
ண்ண் î laWonta⊅ î ÜlaWonto î á aòona ssv-N -¶ ; ">©¶oe'©		¢òúê	çíëê	çéõê	¢ ëê	çaè ê
ama î la Saî La Civo a î î Va a din din San La Civo a la		õũa cò cũ ú	éúûlúóûaèò	ë Quéa di ì õ	accéóceac	a (2001) ú (120) ú (120) ú (120)
amija Þáfaði lóði álæð		èëê	èì ê	èốê	èõêá	éééêá
áá á á á	á ááá î • á		á á	áá á á	áá á á áá a	áá á áá

öÓÛÌ & Ξ .- 736' μ Á Ξ ጵ Û

/fiŽ\$/^ %ž ॄHfl(" ž ` 1 /\$%L (%~~%/C° H3~#°/_~	fl!!/1				
ƨ`•T\$'>~``~šœëŸ; ¢''•𩤥	\$	§ ¤	\$ \$	¦§¤Á	¦§¤À
\$\$\$\%¶\\\^`\$`"•³\\Ø•"\$\\\©					
ájá í 1367 látka i újá í ú TÚT ÚTÁ ja á í í Á tu		<u>ì</u> aqõè	èa ¢ éú	èéçèé	èõ¢úò
á Miti î î â î â Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î					
غَنَيْهُمُ ٱ لْكُلْأَتُ الْ كُلْأَتُ هُ ٱلْ كُلْأَتُ هُ ٱلْكُلْأَةُهُ ٱلْكُلْكُةُ الْمُلْكُةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ	çéé	ç íë	ç úè	qίë	ç éì
assasan î. Hanî Câxiî vêdil dedilî Câxiî vêdiCâxiâ abasa		<u>é</u> aiçìae	éúçóú	ëçëó	á ậ ì
lphaan đườa thi Tuyan thiết and $lpha$ an	éèçãe	<u>éaçèë</u>	éúçëõ	ëçõõ	açèú
án apyatátáió át piátatái ar í Uakátó í	¢é	đ ^ũ	qúè	ζίρ	¢æ
án ÁPÝ ÞÓ Írið á Íriði Chri valdÚ		aqenéi át	ç à <u>é</u>	ì¢éé	èçäë
	açijé á	açaci	çàì_	ì¢éë	è¢ì
amî î 1865 î 1805 nî cû Chrô a î î Yốu	èaçòì	òáçòé	ì a ç õè	èa ę éú	èéçèé
šš, −©¶®' Ṓ• T¹	—————————————————————————————————————	aõçèéê	èúçàèê	èéçãõê	aqanèê
\$\$B'@ <u>T\$</u> ©\$°Ó*•```"Š!∕4°®™®®ûû					
\widetilde{a} \widetilde{a}	¢ icê	çëòê	çëaê	çëa ê	çëõê
$\widetilde{a}\widetilde{a}\widetilde{a}\widetilde{a}\widetilde{b}\widetilde{a}\widetilde{b}\widetilde{a}\widetilde{b}\widetilde{a}\widetilde{a}\widetilde{a}\widetilde{a}\widetilde{a}\widetilde{b}\widetilde{U}$	¢ ëôê	çëòê	çëa ê	çëa ê	¢ëõê
anna î latat latat kana verteta	¢ ëôê	çëòê	çëa ê	çëa ê	¢ëa ê
غَنَيْهُ ٱ لْكُلْأَتُ ٱلْكُ لْأَتُ هُ ٱلْمُ كُ لِّهُ ٱلْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتِينِ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَى الْمُعْتَقِينِ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِقِينَ الْمُعْتِينِ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتِقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتِقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتِقِينَ الْمُعْتِقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتِقِينَ الْمُعِلَى الْمُعْتِقِينَ الْمُعْتِقِينَ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِقِينِ الْمُعِلِي الْمُعْتِي الْمُعْتِقِينِ الْمُعْتِقِينَ الْمُعْتِقِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِقِينِ الْمُعْتِقِينَ الْمُعْتِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعْتِينِ الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِينِ الْمُعِلِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِقِيلِ الْمُعْتِي الْمُعْتِي ا	<i>ç</i> àòê	çé õ ê	ç úë ê	<i>ç</i> aèê	ç eóê
š\$/Ñ ⁻ ¶ ; ">©¶oë©					

a **di** õa lõõé

èëê

óûea**éû**èò

èì ê

ë QBOO O O O O

èớê

ëûûeêûaeæ

èõêá

æðóóóðóèé

éééâá

amayorÞóðráðarlóðriafðþá

 $\square \ddot{\mathbb{S}}^{1} \bullet \tilde{} \longrightarrow \ddot{\mathbb{O}} \oplus \ddot{\mathbb{E}}$

 $\hat{\mathbb{U}}$ THE THE PROPERTY OF âðæðáldi að í íð áðæðæðáldi að ÚðÚð ða áðæðæð lað í áð áð áð áð áð áð áð í íð íð áð í íð í íð áð í íð íð áð íð

¦ËÈÓ™®">®\$>šÅ~"¶®š±">®∵¶ÅÑ~™Ë

důmá Baktoranká výraká důmá výratnácí là lüaktora í Úkróc. Bů kari li labatoká á adlá akedvíraktora í Úkróc. Bů kari dila kari kari kari li labatoká i යිට්ස්සියි නිර්වන්න් වූ බැට ලක්සෙව්ට එට ට්විනේස්ස්ට්න් වැන්සින්ට එට ට්විනේස්ස්ට්න්ට එට ට්විනේස්ස්ට්න්ට එට ට්විනේස්ස්ට්න්ට එට ට්විනේස්ස්ට්න්ට එට ට්විනේස්ස්ට්න්ට එට ට්විනේස්ස්ට්න්ට එට ට්විනේස්ට්න්ට එට ට්විනේස්

STEVENT A STANDARD TO THE STANDARD TO THE STANDARD STANDARD TO THE STANDARD ŭ maki akiaki akiaki akia akiaki akia

Å~"¶@š±"> @"¶ÅÑ~ ÈÓ™® ">®¬ ">"´"•

ÈÓ™®">® ¢ÙŸŒÓ ÈÓT®">®•¨ŸŸTM Ýn ÁP á BÚBLI î ÜBp á î a Binyarô BÚ Brýak Únai î a Bero Ley arvýkarð arð ívôdaði alliðiaðilda maii Ü**akki**o i and **aarua k**yakna ii a in a ku ôan Yean Land

 \tilde{AO} "> TMŠR" © îããANGÄnúúcèê

ây.C.Ûnî a A \hat{a} A

 $\mathbb{A}^{\bullet*}$ $\stackrel{\cdot}{=}$ $\stackrel{\cdot}{>}$ $\stackrel{$

ýî â î dão â rý.CÚ î á Chrándach Chái đác Hái a Chái a Chái a Chái ga chúi ga

ab Yeadriod Da YyYzyi aYUUYbaadh î Üzadî abuzêr kadaî i bû Üzadî abuzêr û Da ab aîyî îî Ûraça yî a abuzêr î Üzaybî dizêr birad di azerî kadayî aî azerî ab azerî ab û badriod Da bî didabu carrixadêr a cîb a cîb a cîb a cîb a cîb a cîb a cîb a cêrî di a abar a cîb a

ו™¶V¯°°°¶Ö¯°°°•°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°		ෘ ගිපේගි බිරිරිපි <u>පිරිබිගිපිරැබ්රිර</u> <u>කිරිරක්ඛපරිබිත්පි</u> <u>ප්රබන්ගිපිරිගිරිරි</u>								
ýiðBälðivárð djúkaðalváþýdBalaljúkjækkaðaiívó										
Ç~_1@Q`@~\$H~'@• \$Ÿ~@\$*"→ ¼@N•""¶Ö~\$~~•"Ÿ~@→£*""•"Ÿ~@→B→3™\N~©™\$\~\$~@	ヺ ��� († ™© " > @M	<u>éaéláccciánce</u> <u>alleccalina</u> ciallaccc								
ýî điể điý đi điển cũ điển với đián điển điển điển điển điển điển điển điể										
1 •~→ "•a∰ Ÿ;; "	cëŸ; c°•𣤥;\$;; õi ûnéáûneò		œŸ;¢"•£¤¥\$¦¤							

Tayi annii Ütatli ciai Yoʻai ilatyi a'dliatyi a'dliato Yaʻi Ütata'ari yaʻa'a i ilata'ari yaʻa'ari ya'a'ari pm \rightarrow^{\text{TM}} \mathbb{T}^{\text{T}} \mathbb{C}^{\text{T}} \mathbb{E}^{\text{T}} \mathbb{E}$

 $\begin{array}{cccc} & & & & & & & \\ \mathring{\mathbb{C}}^{\circ}_{|} - \tilde{\mathbb{N}}^{\circ} & & & & & \\ \mathring{\mathbb{C}}^{\circ} \times \mathbb{N}^{\circ} \tilde{\mathbb{S}}^{\bullet} & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & &$

 $\widetilde{A}\widetilde{B}^{*}\widetilde{N}\widetilde{V}O^{*TMT}S^{*}>\widetilde{S}/2\P^{T}S^{2}\widetilde{E}\widetilde{O}^{T}\mathbb{Q}^{*}>\mathbb{Q}\widetilde{E}$

yziryGrādÜlaGrādoāriniYYaarByriatyClāyolabri arīniYYadÜlaKa VilabÜlaHta VilabBataks aks arabraddradbraKatyrats arar

«¡ŠÅ""TŠ'>~й ØЎ•Š•¨>TMŸ©→TŠÍ JØ\$°22¶¨©TŘ

½・分学主¶™ étà tiáne ½・分学主¶™ étà tiáne atáranació

½•ÓŸš±¶™¶ ÈÓ™©•š±¶™™

ì ගිජනණින් <u>නිශීජවගිවා</u> <u>éවග</u>ා නණිරුර

çúae çêi

Ì š=3°Ó•"'"\$1/4°®°™™®™

çúé

Ï •—"•¨`´"б÷; ^{™™}→™Š

ÉÈ š±→®¨²Ñ~š" **→®-¶**

 \hat{y} âci \hat{u} Be \hat{u} Be \hat{u} Cip \hat{c} Be \hat{c} Cip \hat{c}

 $\text{m} \mid \ddot{\mathbf{B}}^{\text{m}} \ddot{\mathbf{B}}^{\text{TM}} \ddot{\mathbf{S}}^{\text{"}} \text{ $\widetilde{\mathbf{S}}$} \overset{\sim}{\mathbf{S}} \overset{\sim}{\mathbf{Q}} \text{ $\widetilde{\mathbf{Y}}$} \bullet \mathbb{C} \text{ \rightarrow $\mathbb{C}^{\text{"}}$} \overset{\sim}{\mathbf{E}$

TÜALTENAĞÜLÜĞLÜĞ ÜÜNÇLÜĞ ÜÜNÇLÜĞ ÜÜNÇLÜĞ BÜNÇÜĞ BÜNÜĞ

i áyað akvík degniðurða af Vívalek í Úleða sa lædúlæð Víkraða ýlæðukyði þoká kvá aðu akadúleða af Sa aðuleði ávorða aðuleðikkvá ar viðað Víð eð í Úleða ár í úleða í úleða ár í úleða í

$$\ddot{I} \stackrel{\cdots}{}_{T\underline{M}} \overset{\bullet}{S^2} \stackrel{\bullet}{-} \overset{\bullet}{S^1} \stackrel{-}{\rightarrow} \longrightarrow$$

yî ácÛji a 110km î Ûkmê û 110km û 110k

î 1940 Tá ôz at el di écele î Biaô á din 194 din a nzatê î	ố VÍ Þán Các				
ãgá ôz ahÐ İlDarôaî ið	Di a Garicatin an an tri af a a chila an tri af a chila an tri an tri an tri an tri an tri an tri an tri an tr	î ÜNAA aça OzaMe ÜZAT ü	ðù ðÍBBBÝ ÞÐBAÐA	ABBAYÎAYAÛDÎAYÎ ÇÎ	KÜRKÜLKEL KÜKÜLÉ TE
	_				
			-		

Ýýstajá vá á écoù

î Biáô á ản Đất biến cố Đị li Đán việc

ïæÐî

ැද කි සිකිරික ටී කිසින් සේවා කිසින් කිව්වාට කිසින් වූ කිසින් සමා වීරුක් කිසින් විට් සිසින් විට් සිසින් වී කිසින් සමා වීරුක් සිසින් විට් සිසින් සිසි

NaO\Y@T.YRQIT P bPQ\TRUaTt ZZ[PQ\^

âcii ã cili Un altip Un và ciabá î nac algi à vitatoria de cina la sa cape de cape d

ÿî Piá çá Üñyáécî ì

î Bian á an Thái digiaí na chúir i Úranúir

î îïaôatyîáùðtáðiáðiú

iça Üyabarcanið aðababá í ínaðaby á úðbár á óðhúrð árðhúrða þáðhárá írjaðá hírakyðý diðaðhábá hírðandá hírða á Úðbí í Üdpá í aðhýrað írðhár á ár Víðaða írðhárá á ár Víðaða á Víðaða á víðaða árðhárá

ãi Bivar cá i ô l'a lecco ô

î Báô á ản Pấ Lắciá cố VID î Ü Pán Các

î øÞáiïßiäiïï

ις αι ο $\dot{\mathbf{U}}$ Β΄ $\dot{\mathbf{U}}$ $\dot{\mathbf{U}}$ Β΄ $\dot{\mathbf{U}}$ $\dot{$

ôó lầa cá cũ î đ**u** để có các

âv Ý á Ý Ú BŮ TVÁ a VÁ ï

 $\ddot{\alpha}$ $\ddot{\alpha}$

Yabbb afaçana î a é ó a é ó a é ó a é ó a é

and the control of th

î Biaôá nhấ ả đia cố lợc lữ bai việc

YñáxiîãYn̂ÜÞ

ðÜÐVÐÁ BÐÁ éóæ

îßiáôáàn Thái ảo á ô VÍÞ îÜÞán úéú

anatri ban Gazin

ार्व जिर्मिक्किक्वा ते बरिमिर्धिक भागिक किर्मुशावर्योग्द्र एवं जिर्मिक्वा ते बरिमिर्स कर्मिर्धिका जिन्ना किर्माणिक विश्व कर्मिर्धिका किर्माणिक विश्व कर्मिर्मिर्स के विभिन्न कर्मिर्मिर्स के विश्व कर्मिर्मिर्स के विभिन्न के विभन्न

BaiBá çá î ağüBeráécae

î Biáô á à n Phố Làciá ô VÍÞ î Ü Páb vi éë

ã ÁNÍ Tái í Gazi i

âôa á cá ĉüßla écce

ã ÁDÜNI GARI

ÿß îaBáçá ôadVűtáéóaè

Ynáxin a Ynúb

 \tilde{a}_{0} \tilde{a}_{0}

âÜNYKácáîããIPváécacó

î Îstan â a în în îstan în în îstan în îstan în îstan în îstan în îstan în îstan în îstan în îstan în îstan în îstan în îstan în îstan în îstan în îstan în îstan în îstan în îstan în îstan îstan în îstan

 apácia a Bratiso finación finación inación a Branción Branción a Branción Branción a Br

âyî**y**a Bîiaécca

î Bian a an Thái diga a chúir i Úranúnú

î øÞáiiîßiäiï

τρά Βρίτι Βακοαπτίο αθακθέλο Υπικο εθητικό εθρίτια τρά Βρίτιαπτίο αθακα απάθθελεί Βακοπτικο αθθεί Εθρίτια από Εθραθμένα το Αθραθμένα το Αθραθμένα το Αθραθμένα Εθραθμένα Εθραθμένο Εθραθμένο Εθραθμένο Εθραθμένο Εθραθμένο Εθραθμένο Εθραθ

ßădavavorii araécoo

âý Ý áãô a Khina Yhin

içjanî arakananî da karîyî an akûra hira akûrî akûrî akûra içjanî arakaka Ûkî ahî ayî ahî Ükanarî kura û û akûrî an akûrî ahê akûrî ahê akûrî ahê akûrî ahê akûrî ahê akûrî ahê akûrî ahê akûrî ahê akûrê ahê û û ahê akûrê ahê û û ahê akûrê ahê û û ahê akûrê ahê û û ahê akûrê ahê û û ahê akûrê ahê û û ahê akûrê ahê û û ahê akûrê ahê û û ahê akûrê ahê û û ahê akûrê ahê û û ahê akûrê ak

iî **Ha**î ü Bin á é ó ö a

î ມີສົດຂໍ້ສຳໃຊ້ນີ້ສັດຂໍ ວໍ່ໃ \hat{U} ເປັນສຳນັສ ເຂົ້າ ເປັນສຳນັສ ເຂົ້າ ເປັນສຳນັກ ເຂົ້າ ເຂົ້າ ເປັນສຳນັກ ເຂົ້າ ເປັນສຳນັກ ເຂົ້າ ເປັນສຳນັກ ເຂົ້າ ເປັນສຳນັກ ເຂົ້າ ເປັນສຳນັກ ເຂົ້າ ເປັນສຳນັກ ເຂົ້າ ເປັນສຳນັກ

 $\ddot{\alpha}$ $\dot{\alpha}$ í 1971 fá **çi Ý**yá é cói î 13 fá ó a a hÉ dáoiá ó ÚÞ í ÜÞanú é æ yii a Milla Odaoii 13 faoii

 \hat{y} iá \hat{B} \hat{a} aðá \hat{B} i với \hat{a} i \hat{B} i \hat{A} với \hat{a} i \hat{A} vá \hat

Т

ý a Mario B. Viato a a com a fila a com a fi

T T T T

ý a rolladí a dy atro GU Taba a a comá a tha a comá a comá a tha a comá a tha a comá a tha a comá a tha a comá a tha a comá a tha a comá a tha a comá a tha a comá a tha a comá a tha a comá a tha a comá a tha comá a comá a tha comá a tha comá a comá a comá a tha comá a comá a comá a comá a tha comá a comá a comá a comá a comá a comá a tha comá a

ya Gara da da ay dayna a fi da aay o da dayna ab a adna fi da ay ya ay a caaddo y dayna an adda ah ah addan addan ah addan ah addan ah addan ah addan ah addan ah addan ah addan ah addan ah addan ah addan ah addan ah addan ah addan ah addan ah addan ah addan ah addan ah addan ah addan addan ah addan addan ah addan ah addan ah addan ah addan ah addan ah addan ah addan addan ah addan addan ah addan addan ah addan addan ah addan addan addan ah addan

á	á																á	á	i á		á á á	i á				á á			á á á . á	á
á																	çaék	3										•	. ^	
																					æûi				æûúéég			âeq		
,																	~ //				æũi	uu			æ̃iiipa	æ		æ	úæ	
á																	ÇXX	3												
																					æũ				áéüínéúr,			æ		
																					æũi	úú			ǽuúneg	æë		æ	ρõ	
á	á																çëòé	è												
																					æũú				ǽũúóg			å		
																					æûú	úú			áéûĭ iniúg	Ćά		åç	èè	
á																	ÇÆĞ	<u>)</u>												
																					æûú	úú			æiinéúg	ὰú		æ	ìú	
																					æûi	úú			ǽûúniég	ëè		æ	ìé	
ááán.	á	á á	á		á á	á	á	á																						
áná á		á á																												
áná		áá á		á	á	á		á á	á	á	á	á	á á	á	á á	á	á á	á	áá	á	á	á	áá	áá	á	á á	i	á á	á á	
á á	á	á																												

, `! [Ł] " [%ž! Æžfl" ` [° A

Notes

Notes

Notes

